

5. ہر مضمون میں 40 سوالات ہیں۔ یہ سوالیہ کتابچے میں مجموعی طور پر 120 سوالات ہیں۔ وہ طلباء جنہوں نے متبادل مضمون کوڈ 95-UE یا 97-UE کا انتخاب کیا ہے ان کے لئے اس سوالیہ کتابچے میں ہر سوال کے دوہرے نمبر پرنٹ ہیں۔ طلباء اپنے پسندیدہ مضمون کو جو انہوں نے انتخاب کیا ہے OMR شیٹ پر شیڈ کریں۔

40 questions are provided against each subject. This set of Question Booklet contains 120 questions in all.

For those candidates who have opted alternative subject codes 95-UE or 97-UE the question booklets are printed with double numbering against each question. The candidate has to shade in the OMR Sheet according to his / her choice of subject opted.

6. ہر سوال 1 (ایک) مارک کا ہے۔ سبھی سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے اور ہر صحیح جواب پر ایک مارک دیا جائے گا۔ غلط جواب پر کوئی منفی مارکنگ نہیں ہوگی۔

Each question carries *one* mark. Answering *all* the questions is compulsory and each correct answer will be awarded one mark. There will be no negative marking for wrong answers.

7. دوران امتحان :

(a) تمام سوالات کو بغور پڑھ لیں۔

(b) آپ کے انتخاب شدہ جواب کو OMR شیٹ میں موجود مساوی نمبر کے دائرے پر سیاہ/ نیلے بال پوائنٹ پین سے اچھی طرح شیڈ کریں۔ OMR شیٹ پر ایک بار جواب کی نشاندہی کرنے کے بعد ترمیم کرنے کی کوشش نہ کریں اور OMR شیٹ پر غیر ضروری نشان نہ لگائیں۔

مثال : اگر آپ کے سوالیہ کتابچے میں سوال نمبر 20 کے لئے صحیح جواب آپشن C ہے تو آپ کو شیٹ میں سوال نمبر 20 کے آگے دیے گئے آپشن C کے دائرے پر سیاہ/ نیلے رنگ کی بال پوائنٹ پین سے شیڈ کرنا ہوگا۔

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

سوال نمبر 20 (A) (B) (C) (D) (محض مثال ہے)



(c) OMR شیٹ کو کسی بھی صورت میں نہ موڑیں، نہ پھاڑیں، نہ خراب اور نہ اسٹیپل کریں۔

During the examination,

- Read the questions carefully.
- Completely darken / shade the relevant circle against Question Number in the OMR Sheet using blue / black ball point pen. Do not try to alter the entry and not to do any stray marks on OMR Sheet.

Example : In the question booklet, if C is the correct answer for Question No. 20, then in the OMR Sheet shade the option C using blue / black ball point pen as follows.

Question No. 20) (A) (B) (C) (D)



(This is an example only)

- Do not fold, tear, wrinkle or staple on the OMR Sheet.

8. اگر کسی سوال کے جواب کے لئے ایک سے زیادہ دائروں پر شیڈ کیا جائے تو ایسے جواب کو غلط تصور کیا جائے گا اور اس کے لئے مارکس نہیں دیئے جائیں گے۔

If more than one circle is shaded for a given question, such answer is treated as wrong and no marks will be given.

9. OMR شیٹ میں دستخط کرنے کے لئے مہیا کی گئی جگہوں پر طالب علم اور نگران کار کو دستخط کرنا ہوگا۔

Student and Room Invigilator should sign in the OMR Sheet in the space provided.

10. امتحان گاہ سے نکلنے سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر مضمون کے جوابات کا OMR شیٹ نگران کار کے حوالے کر

دے۔

Candidate should return the subject-wise answered OMR Sheet to the Room Invigilator before leaving the examination hall.

11. سوالی کتابچے کے آخر میں فراہم کردہ خالی جگہ کو کچا کام (Rough work) کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

Rough work can be done in the space provided at the end of the Question Booklet.

12. کلکولیٹر، موبائل، معیاری گھڑی اور کسی قسم کے الیکٹرانک آلات امتحان گاہ میں لے جانا ممنوع ہے۔

Calculators, Mobiles, Smart Watches and any other electronic equipment are not allowed inside the examination hall.

مضمون : سیاسیات

Subject : POLITICAL SCIENCE

مندرجہ ذیل سوالات کے لئے چار متبادل یا نامکمل جواب دیئے گئے ہیں صحیح جواب کا انتخاب کر کے نیلے/کالے رنگ کے

قلم کی مدد سے دئے گئے OMR پرچے پر صحیح جواب کے خانہ میں رنگ بھریں۔
40 x 1 = 40

Four choices are given for each of the following questions / incomplete statements. Choose the correct answer among them and shade the correct option in the OMR Answer Sheet given to you with a black / blue ball point pen : 40 x 1 = 40

1/41 .1909ء میں یہ اصلاحی ایکٹ جاری کیا

- (A) منٹو مارلے
(B) مونٹاگ چیلسمفورڈ
(C) گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ
(D) ریگولیشن ایکٹ

The Reform Act that was brought into force in the year 1909 is

- (A) Morley-Minto (B) Montague-Chelmsford
(C) Government of India Act (D) Regulating Act

2/42 .ہمارے (آئین) دستور کی پیشکش میں یہ بیان ہے

- (A) دستور (آئین) کی روح
(B) آئین کا ادارہ
(C) دستور کا ستون
(D) دستور کی بنیاد

The preamble of our constitution is described as

- (A) soul of the constitution
- (B) body of the constitution
- (C) pillar of the constitution
- (D) foundation of the constitution

3/43 . 19 ویں دفعہ میں لوگوں کی زندگی کی راہ (لائین) ہے کیونکہ

(A) امتیازی سلوک کی ممانعت

(B) مساوات دیا گیا

(C) 6 آزادیوں پر مشتمل

(D) چھوت چھات کا خاتمہ

Article 19 has been the lifeline of the people because it

- (A) prohibits discrimination
- (B) has given equality
- (C) contains 6 freedoms
- (D) abolishes untouchability

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

ہمارا دستور عمل میں لایا گیا .4/44

- (A) 26 اگست 1950 (B) 26 جنوری 1950
(C) 15 اگست 1950 (D) 15 جنوری 1950

Our constitution came into force on

- (A) 26th August, 1950 (B) 26th January, 1950
(C) 15th August, 1950 (D) 15th January, 1950

ہمارے دستور کے باوا آدم ہیں .5/45

- (A) مہاتما گاندھی (B) جواہر لال نہرو
(C) راجیندر پرساد (D) ڈاکٹری آرا مبیڈکر

The Father of our constitution is

- (A) Mahatma Gandhi (B) Jawaharlal Nehru
(C) Rajendra Prasad (D) Dr. B. R. Ambedkar

ہندوستان میں اختیار کرنے والا شہریت کا طریقہ ہے .6/46

- (A) واحد شہریت (B) دو عملی شہریت
(C) کثیر شہریت (D) بالغ شہریت

The type of citizenship followed in India is

- (A) Single citizenship (B) Dual citizenship
(C) Multi-citizenship (D) Adult citizenship

7/47 . دستور کی 42 ویں ترمیم کے تحت آئین کی پیشکش میں یہ لفظ شامل کیا گیا ہے

- (A) جمہوری (B) جمہوریت
(C) سیکولرازم (D) خود مختاری

The word added to the preamble by 42nd constitutional amendment is

- (A) Republic (B) Democracy
(C) Secularism (D) Sovereignty

8/48 . ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حلف برداری (Oath) اس آفس سے لیتے ہیں

- (A) وزیراعظم (B) گورنر
(C) وزیراعلیٰ (D) صدر

The chief justice of the High Court should take an oath of office by the

- (A) Prime Minister (B) Governor
(C) Chief Minister (D) President

9/49 . دیہی خود حکمرانی کا پرائمری یونٹ ہے

- (A) گرام پنچایت (B) ضلع پنچایت
(C) گرام سبھا (D) تعلق پنچایت

The primary unit of rural self rule is

- (A) Gram Panchayat (B) Zilla Panchayat
(C) Gram Sabha (D) Taluk Panchayat

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

10/50 اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن (KPSC) ریاستی حکومت کے قابو (Control) میں ہے کیونکہ

(A) چیئرمین اور ممبران کا تقرر ان کے مشورے سے ہوتا ہے

(B) چیئرمین اور ممبر کا تقرر کرتے ہیں

(C) تنخواہ اور دوسرے الاؤنس ادا کرتے ہیں

(D) سابق ملازمین ممبر ہوتے ہیں

State Public Service Commission is under the control of the state government because

(A) chairman and members are appointed on its advice

(B) it appoints the chairman and members

(C) salary and other allowances are paid by it

(D) the members are former employees of it

11/51 ”دیہی پنچایت کی بنیاد ہندوستان کی خود مختاری حکومت کرتی ہے۔“ اس کو کہنے والے

(A) ڈاکٹر بی۔ آر۔ امبیڈکر (B) جیوتی باپھولے

(C) جے۔ لاسکی (D) مہاتما گاندھی

"Village Panchayat is the foundation of the autonomous government of India." It is said by

(A) Dr. B. R. Ambedkar (B) Jyotiba Phule

(C) H. J. Laski (D) Mahatma Gandhi

بنیادی حقوق کو سواراج بل میں کس نے شامل کیا .12/52

(A) موتی لال نہرو

(B) بال گنگادھر تلک

(C) سردار پٹیل

(D) کرپالانی

The one who mentioned the Fundamental Rights in Swaraj Bill is

(A) Motilal Nehru

(B) Bal Gangadhar Tilak

(C) Sardar Patel

(D) Kripalani

زمینی آمدنی اور اس کے ریکارڈس (Records) کے مسائل کا تعلق کس عدالت سے ہوتا ہے۔ .13/53

(A) آمدنی عدالت

(B) ضلع عدالت

(C) صارفی عدالت

(D) لوک عدالت

The court which takes the issues related to land revenue and its records is

(A) Revenue court

(B) District court

(C) Consumer court

(D) Lok Adalat

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

14/54 . ہمارے دستور کی 44 ویں ترمیم سے کس بنیادی حقوق کو واپس لیا گیا ہے ؟

- (A) آزادی کا حق (B) جائیداد کا حق
(C) تعلیم کا حق (D) رزگاری کا حق

The fundamental right taken back through 44th Amendment of the constitution is

- (A) Right to Liberty (B) Right to Property
(C) Right to Education (D) Right to Employment

15/55 . ہائی کورٹ کے ججوں کی وظیفہ یابی کی عمر ہے

- (A) 60 سال (B) 65 سال
(C) 62 سال (D) 58 سال

The age of retirement of the judges of High Court is

- (A) 60 years (B) 65 years
(C) 62 years (D) 58 years

16/56 . ہندوستان کے معلومات کا حق قانون اس سال منظور کیا گیا

- (A) 2005 (B) 2009
(C) 2010 (D) 2012

The Right to Information Act of India was passed in year

- (A) 2005 (B) 2009
(C) 2010 (D) 2012

17/57 . ہمارے ریاستی پالیسیوں کا ہدایت نامہ کس سے اُدھار لیا گیا ہے ؟

(A) امریکی دستور

(B) انگریزی دستور

(C) آئرش دستور

(D) روسی دستور

Our Directive Principles of State Policies are borrowed from

(A) American Constitution

(B) British Constitution

(C) Irish Constitution

(D) Russian Constitution

18/58 . شراب پر پابندی قائم ہے

(A) گاندھیائی اصولوں

(B) آزاد اصولوں

(C) سماجی اصولوں

(D) سیکولر ایسٹ اصولوں

Ban on liquor is

(A) Gandhian principle

(B) Liberal principle

(C) Socialist principle

(D) Secularist principle

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

19/59 . جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے لئے عوام کے ذریعہ اس کے کہنے والے

- (A) ابراہم لنکن
(B) جے۔ ایس۔ مل
(C) پیری کلس
(D) کارل مارکس

"Democracy is a government of the people by the people and for the people" was said by

- (A) Abraham Lincoln
(B) J. S. Mill
(C) Pericles
(D) Karl Marx

20/60 . کلکتہ کے سپریم کورٹ میں اس ایکٹ کو جاری کیا

- (A) منٹو مارلے اصلاحات
(B) چارٹر ایکٹ آف 1833
(C) ریگولیشن ایکٹ
(D) ایکٹ آف 1858

The Act which established Supreme Court in Calcutta is

- (A) Morley-Minto reforms
(B) Charter Act of 1833
(C) Regulating Act
(D) The Act of 1858

ہندوستان کامیگنا کارٹہ ہے .21/61

(A) 1773 کارگیولپٹنگ ایکٹ

(B) 1833 کاچارٹرا ایکٹ

(C) 1861 کا ایکٹ

(D) 1858 کا ایکٹ

The Magna Carta of India is

(A) Regulating Act of 1773

(B) The Charter Act of 1833

(C) The Act of 1861

(D) The Act of 1858

تمام مذاہب کے لئے یکساں سلوک .22/62

(B) جمہوریہ

(A) سماجیت

(D) فرقہ واریت

(C) سیکولرازم

Equal treatment for all the religions is

(A) Socialism

(B) Republic

(C) Secularism

(D) Communalism

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

یکساں شہری کوڈ نافذ کرنے والے تعلق رکھتے ہیں .23/63

- (A) عمرانیات اصولوں
(B) گاندھیائی اصولوں
(C) آزاد اصولوں
(D) آمر اصولوں

Uniform civil code enforcement belongs to

- (A) Socialist principles
(B) Gandhian principles
(C) Liberal principles
(D) Dictator principles

کرناٹک میں پنچایت راج کے باوا آدم ہیں .24/64

- (A) رام کرشنا ہگڈے
(B) ایم-وانی-گورپڈے
(C) عبدل نظیر صاحب
(D) ایم-پی-پرکاش

The Father of Panchayat Raj system in Karnataka is

- (A) Ramakrishna Hegde
(B) M. Y. Ghorpade
(C) Abdul Nazir Sahib
(D) M. P. Prakash

کرناٹک اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کا صدر دفتر ہے .25/65

- (A) میسور
(B) بینگلور
(C) منڈیا
(D) ٹمکور

The headquarters of Karnataka State Public Service Commission is
at

- (A) Mysore
(B) Bengaluru
(C) Mandya
(D) Tumkur

26/66 . یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کا تقرر کرتا ہے

- (A) وزیر اعظم
(B) نائب صدر
(C) صدر
(D) گورنر

The chairman and members of Union Public Service Commission are appointed by

- (A) Prime Minister
(B) Vice-President
(C) President
(D) Governor

27/67 . وہ کونسا کورٹ ہے جو انصاف دینے میں دیری کرتا ہے۔

- (A) لوک عدالت
(B) ضلع کورٹ
(C) آمدنی بورڈ
(D) تحصیلدار کورٹ

The court which avoids delay in the delivery of justice is

- (A) Lok Adalat
(B) District Court
(C) Revenue Board
(D) Tahsildar Court

28/68 . شمالی مشرقی ریاستوں میں جو انٹ پبلک سروس کمیشن کا قیام یہاں ہے۔

- (A) گوہاٹی
(B) گینگ ٹاک
(C) کوہیما
(D) ایمپال

Joint Public Service Commission for the North Eastern states is located in

- (A) Guwahati
(B) Gangtok
(C) Kohima
(D) Imphal

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

29/69 . ہماری ریاست کی ہائی کورٹ کا صدر دفتر ہے

- (A) بنگلورو (B) میسور
(C) بلگادی (D) شیموگہ

The headquarters of High Court of our state is in

- (A) Bengaluru (B) Mysore
(C) Belagavi (D) Shivamogga

30/70 . دستوری اسمبلی کے صدر تھے

- (A) ڈاکٹر بی۔ آر۔ امبیڈکر
(B) سردار ولہ بھائی پٹیل
(C) ڈاکٹر بابو راجیندر پرساد
(D) بی۔ این۔ راؤ

The President of Constituent Assembly was

- (A) Dr. B. R. Ambedkar
(B) Sardar Vallabhbai Patel
(C) Dr. Babu Rajendra Prasad
(D) B. N. Rao

31/71 . ہمارے دستور کی دفعہ 21(A) کا تعلق ہے

- (A) بچہ مزدوری کا خاتمہ
(B) چھوٹ چھات کا خاتمہ
(C) بے قاعدہ ستم کرنے کے خلاف حفاظت
(D) مفت اور لازمی تعلیم

Article 21(A) of our constitution deals with

- (A) abolition of child labour
(B) prohibition of practice of untouchability
(C) protection against arbitrary punishment
(D) free and compulsory education

32/72 . ہمارے ”ریاستی پالیسیوں کا ہدایت نامہ آئین کی اندرونی روح ہے۔“ اس قول کو کہنے والے

- (A) جواہر لال نہرو
(B) گریان ویلی اسٹین
(C) مہاتما گاندھی
(D) کے۔سی۔مرکندن

"The directive principles of state policy form the inner soul of the constitution." It is stated by

- (A) Jawaharlal Nehru
(B) Granville Austin
(C) Mahatma Gandhi
(D) K. C. Markandan

33/73 . کارپوریشن کے منتخب سربراہ ہیں

- (A) کمیشنر
(B) چیف - ایگزیکٹو آفیسر
(C) وزیر اعلیٰ
(D) میئر

The elected head of corporation is

- (A) Commissioner
(B) Chief Executive Officer
(C) Chief Minister
(D) Mayor

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

دستور کی 73 ویں ترمیم کا تعلق .34/74

- (A) دیہی مقامی ادارے
(B) شہری مقامی ادارے
(C) مرکزی علاقوں
(D) مرکزی حکومت

73rd constitutional amendment is related to

- (A) rural local bodies (B) urban local bodies
(C) union territories (D) central government

ہندوستان میں مقامی حکومت کے باوا آدم ہیں .35/75

- (A) رپن
(B) مائیو
(C) ڈلہوزی
(D) کارنوالیس

The father of local governments in India is

- (A) Ripon (B) Mayo
(C) Dalhousie (D) Cornwallis

ضلع پنچایت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے .36/76

- (A) پنچایت کا صدر
(B) چیف ایگزیکٹو آفسر
(C) کمشنر
(D) پنچایت کی ترقی کا افسر

The administrative head of Zilla Panchayat is

- (A) President of Panchayat
(B) Chief Executive Officer
(C) Commissioner
(D) Panchayat Development Officer

37/77 . وہ کونسا ضلع ہے جہاں ہر 18,000 آبادی پر ایک ضلع پنچایت ممبر ہوتا ہے

- (A) بلگاری (B) اُتر کنڈا
(C) ٹمکور (D) کوڈاگو

The district which has one zilla panchayat member for every 18,000 population is

- (A) Belagavi (B) Uttara Kannada
(C) Tumkur (D) Kodagu

38/78 . دستور کے مسودہ ساز کمیٹی کے چیئرمین ہیں

- (A) ڈاکٹر بابو راجیندر پرساد (B) سچی دانندا
(C) سردار ولجھ بھائی پٹیل (D) ڈاکٹر بی آر امبیڈکر

The Chairman of the Drafting Committee of Constitution is

- (A) Dr. Babu Rajendra Prasad (B) Sachchidananda Sinha
(C) Sardar Vallabhbhai Patel (D) Dr. B. R. Ambedkar

39/79 . کے-سی-وہیرے نے ہمارے وفاقی نظام (Federal System) کو کواسی وقافی (Quasi-Federal) کہتے ہیں کیونکہ

- (A) ان میں دونوں واحد (Unitary) اور وفاقی (Federal) خصوصیات ہیں
(B) ان میں امریکی حکومت کا طریقہ ہے
(C) انگریزی پارلیمنٹ کا طریقہ ہے
(D) سارا اقتدار پر مرکز قابو ہے

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

K. C. Wheare calls our federal system as a quasi-federal because

- (A) it has both unitary and federal features
- (B) it has American model government
- (C) it has British parliament model
- (D) centre controls complete power

معاشی انصاف کے اہم مقصد کا تعلق ہے .40/80

- (A) معاشی مساوات حاصل کرنا
- (B) ہر ایک کو روزگاری فراہم کرنا
- (C) ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت میں سدھار
- (D) بہترین تعلیم کی فراہمی

The main aim of Economic Justice is related to

- (A) achieving economic equality
- (B) providing jobs to each and everyone
- (C) improving country's internal and external trade
- (D) providing better education

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

[کچے کام کے لئے جگہ]

[Space for rough work]

97-U/E(RF/RR/PF/PR)

[کچے کام کے لئے جگہ]

[Space for rough work]

DO NOT WRITE ANYTHING HERE